

Principles of Accounting (Objective)

(For All Sessions)

اصول حساب داری (معروضی)

Marks: 20

Time: 30 minutes

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جرد C, B, A یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھریں۔

NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

- 1.1 The normal balance of purchase discount is: 1.1 رعایت خرید کا عمومی بیلنس ہوتا ہے:

(A) Debit ڈیبٹ (B) Positive مثبت (C) Negative منفی (D) Credit کریڈٹ
2. Closing stock is valued at: 2. اختتامی ذخیرہ کی قیمت کا تعین ہوتا ہے:

(A) Cost price لاگت خرید (B) Market price بازار کی قیمت
(C) Cost or market price whichever is less جو بھی کم ہو (D) Cost of market price whichever is higher لاگت یا بازار کی قیمت میں جو زیادہ ہو
3. Interest on drawing is _____ of business. 3. برداشتگی پر سود کاروبار کا _____ ہے۔

(A) Income آمدنی (B) Expense خرچہ (C) Asset اثاثہ (D) Liability ذمہ داری
4. Depreciation is a business: 4. فرسودگی کاروبار کا _____ ہے۔

(A) Asset اثاثہ (B) Revenue آمدنی (C) Liability ذمہ داری (D) Expense خرچہ
5. The grace period for bills of exchange is: 5. ہنڈی کے لئے رعایتی مدت ہے:

(A) 7 Days 7 یوم (B) 10 Days 10 یوم (C) 5 Days 5 یوم (D) 3 Days 3 یوم
6. Noting charges are paid on: 6. نوٹنگ چارجز _____ پر ادا کئے جاتے ہیں۔

(A) ہنڈی پر عہد لگنے (B) ہنڈی کی عدم ادائیگی (C) ہنڈی کی تجدید (D) ہنڈی کی ادائیگی
Discontinuing of bill Dishonour of bill Renewal of bill Honor of bill
7. Loss of sale on fixed asset is called: 7. مستقل اثاثہ کی فروخت پر نقصان کو کہتے ہیں:

(A) Capital loss سرمایہ نقصان (B) Revenue loss مالیاتی نقصان (C) Malicious loss مالیاتی اخراجات (D) Intentional loss انٹوئی مالی ادائیگی
Revenue expenses Deferred revenue expense
8. Wrong allocation of capital to revenue is: 8. غلطی سے سرمایہ کو مالیاتی مقصد سے _____ کرنا ہے۔

(A) تا اہلی کی غلطی (B) بھول جانے کی غلطی (C) اصولی غلطی (D) تلافی کی غلطی
Error of commission Error of omission Error of principle Compensating error
9. Assets are always equal to: 9. اثاثہ جات ہمیشہ برابر ہوتے ہیں:

(A) Liabilities واجبات (B) Capital سرمایہ (C) Liabilities + capital واجبات جمع سرمایہ (D) Drawing + capital برداشتگی جمع سرمایہ
10. The normal balance of assets account is: 10. اثاثہ جات کا نارمل بیلنس کہلاتا ہے:

(A) Debit balance ڈیبٹ بیلنس (B) Positive balance مثبت بیلنس (C) Negative balance منفی بیلنس (D) Credit balance کریڈٹ بیلنس
11. When cash is used by the owner for personal use, the debit will be: 11. جب کاروبار کا مالک ذاتی استعمال کے لئے کیش استعمال کرتا ہے تو ڈیبٹ ہوگا:

(A) Cash کیش (B) Asset اثاثہ (C) Drawings برداشتگی (D) Capital سرمایہ
12. The term "Jour" means: 12. اصطلاح "جر" کا مطلب ہے:

(A) Daily روزانہ (B) Weekly ہفتہ وار (C) Monthly مہینہ وار (D) Yearly سالانہ
13. Real accounts relate to: 13. حقیقی کھاتوں کا تعلق _____ کے ساتھ ہوتا ہے:

(A) Assets اثاثہ جات (B) Liabilities واجبات (C) Expenses اخراجات (D) Revenues آمدنیوں
14. Purchase of furniture from Ali will be recorded in: 14. علی سے فرنیچر خریدنے کا اندراج _____ پر ہوگا:

(A) Sale journal روزنامہ فروخت (B) Purchase journal روزنامہ خرید (C) Cash book کیش بک (D) General journal عام روزنامہ
15. No entry is made for: 15. اندراج نہیں ہوتا:

(A) Cash purchase نقد خرید (B) Credit purchase دھار خرید (C) Cash discount نقد رعایت (D) Trade discount تجارتی رعایت
16. Outstanding expenses should appear in _____. 16. واجب الادا اخراجات _____ میں جانے چاہئیں۔

(A) Assets اثاثہ جات (B) Revenues آمدنیوں (C) Suspense account نمبر لکھی کھاتہ (D) Liabilities واجبات
17. The equality of debit and credit is proved through: 17. ڈیبٹ اور کریڈٹ کی برابری _____ کی مدد سے ثابت کی جاتی ہے۔

(A) Journal روزنامہ (B) Ledger لیجر (C) Trial balance ٹرائل بیلنس (D) Balance sheet بیلنس شیٹ
18. If amount in debit and credit sides of an account is equal, 18. اگر کسی اکاؤنٹ کی ڈیبٹ اور کریڈٹ سائیڈز برابر ہوں تو اکاؤنٹ _____ ہوگا:

then account will show _____.

(A) Debit balance ڈیبٹ بیلنس (B) Credit balance کریڈٹ بیلنس (C) Positive balance مثبت بیلنس (D) Zero balance صفر بیلنس
19. Gross profit is determined through _____. 19. خام منافع کا تعین _____ کے ذریعے ہوگا۔

(A) Profit & loss account نفع و نقصان کا کھاتہ (B) Balance sheet بیلنس شیٹ (C) Trading account تجارتی کھاتہ (D) Cash account زر نقد کھاتہ
20. One of the direct expenses is: 20. _____ براہ راست اخراجات میں سے ایک ہے۔

(A) Carriage مال برداری خرچہ (B) Salary تنخواہ (C) Rent کرایہ (D) Carriage out مال کی ترسیل کا کرایہ

Principles of Accounting (Subjective)

(For All Sessions)

اصول حساب داری (انشائیہ)

Time: 2 hours, 30 minutes

Marks: 80

Rwp-11-23

Section-I

حصہ اول

2. Write short answers of any five parts of the following: (2x5=10) درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- Explain "Accounting Cycle".
 - Describe compound journal entry.
 - Ledger is considered the most important book-keeping record. Tell why?
 - Wages paid to worker. Pass Journal entry.
 - What is meant by drawings?
 - Define cash receipts journal.
 - What is meant by petty cash book?
 - Describe the term bank reconciliation statement.
3. Write short answers of any five parts of the following: (2x5=10) درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- What is discounting of a bill of exchange?
 - Define Bill of Exchange.
 - Define final account.
 - Define long term liabilities.
 - What are adjustments?
 - Define capital expenditures.
 - Define revenue payment.
 - Define error of omission.

SECTION-II

حصہ دوم

Note: Attempt any three questions from the following: (20x3=60)

نوٹ: درج ذیل میں سے تین سوالات حل کریں:

4. Journalize the following transactions:
- Faisal started business with cash Rs 50,000/-
 - Purchase goods for cash Rs 10,000/-
 - Purchase goods on account Rs 5,000/-
 - Sold goods for cash Rs 8,000/-
 - Sold goods on account Rs 6,000/-
 - Bought machinery for cash Rs 15,000/-
 - Paid cash to creditor Rs 3,000/-
 - Received cash from customer Rs 5,000/-
 - Paid rent Rs 1000/-
 - Owner withdraw cash for personal use Rs 2,000/-
5. Prepare a bank reconciliation statement from the following information
- Bank overdraft as per cash book Rs 2,000/-
 - Interest credited by bank Rs 150/-
 - Uncollected cheques Rs 155/-
 - Collection charges entered in pass book Rs 100/-
 - Unpresented cheques Rs 295/-
 - Interest on investment directly collected by bank Rs 35.
6. On March 2014, Yasir sold goods on account to Faisal for Rs 15,000/- . He drew six months bill on him which was accepted by Faisal. On 1st April 2014, Yasir sent bill to his bank for collection. On due date bank collected the bill and deducted collection fee Rs 200/- . prepare journal entries in the books of both parties.
7. From the following trial balance, prepare trading and profit loss and balance

Trial Balance		ٹرائل بیلنس	
Particulars	تفصیلات	Dr Rs.	Cr Rs.
Opening Stock	ابتدائی ذخیرہ	10,000/-	
Purchases	لاگت خرید	48,000/-	
Wages	اجرت	1,600/-	
Sales	آمدنی فروخت		71,000/-
Sales return	واپسی فروخت	2,100/-	
Capital	سرمایہ		16,600/-
Plant	پلانٹ	12,000/-	
Rent	کرایہ	4,000/-	
Salaries	تنخواہیں	7,500/-	
Debtors	مقروض	14,000/-	
Creditors	قرض خواہ		14,000/-
Advertisement	تشہیری خرچ	2,400/-	
Total	میزان	101,600/-	101,600/-

Adjustments

- Closing Stock Rs 10,000/-
 - Wages outstanding Rs 400/-
 - Depreciation of plant 5% per annum
- 8. State with reasons which of the followings are capital or revenue:**

- Paid wages
- Repair of machinery.
- Purchase of furniture for resale.
- Depreciation of machinery.
- Purchase of plant.
- Paid carriage for goods purchased.
- Advertisement expenses paid.
- Interest on loan.
- Rent of building.
- Purchase of franchise.

9. Rectifying the following errors:

- Goods sold to Sameer for Rs 9000/- were debited to his account as Rs 900/-.
- Sales book was under-cast by Rs 2500/-
- Furniture purchased from Liaqat and Company for Rs 8000/- was wrongly passed through purchase book.
- Salaries paid to Rashid Rs 6000/- were wrongly debited to his account.
- Goods bought from Asim for Rs 16000/- were omitted to be recorded in the book.
- Old furniture sold for Rs 6000 was passed through sales book
- Stationery purchased for Rs 890 but debited to stationery account as Rs 980.
- A sum of Rs 650 received from Abid were credited twice in his book.

تصحیحات

- اختتامی ذخیرہ مبلغ 10 ہزار روپے۔
 - غیر ادا شدہ اجرت مبلغ 400 روپے۔
 - پلانٹ کی فرسودگی 5 فیصد سالانہ۔
- 8. وجوہات کے ساتھ بتائیے درج ذیل سرمدی ہیں یا مالیاتی:**
- اجرتوں کی ادائیگی
 - مشینری کی مرمت
 - دوبارہ فروخت کی غرض سے فرنیچر کی خرید۔
 - مشینری پر فرسودگی۔
 - اشیاء کی خریداری پر کرایہ خرچ ادا کیا۔
 - تشہیری خرچ کی ادائیگی۔
 - قرض پر سود خرچ
 - عمارت کا کرایہ خرچ۔
 - فرنیچر کی لاگت خرید پر۔
- 9. درج ذیل غلطیوں کو درست کریں:**
- سمیر کو اشیاء نو ہزار روپے (9000) میں فروخت کی گئیں جبکہ غلطی سے سمیر کے کھاتے میں مبلغ 9 سو روپے درج کئے گئے ہیں۔
 - کھاتہ فروخت میں مبلغ دو ہزار پانچ سو روپے (2500) کم درج ہوئے۔
 - لیاقت اینڈ کمپنی سے مبلغ 8 ہزار روپے (8000) کا فرنیچر خریدا۔ جبکہ غلطی سے خرید کے کھاتے میں درج نہ ہوا۔
 - تنخواہ راشد کو مبلغ چھ ہزار روپے (6000) ادا کی۔ جبکہ غلطی سے اس کے کھاتے میں ڈیبٹ سائڈ پر درج کی۔
 - عاصم سے مبلغ سولہ ہزار (16000) روپے کی اشیاء خریدی گئیں۔ جبکہ غلطی سے اس کے کھاتے میں درج ہوئیں۔
 - پرانا فرنیچر مبلغ چھ ہزار روپے کا فروخت کیا۔ جبکہ اندراج فروخت کے کھاتے میں کیا گیا۔
 - مشینری مبلغ آٹھ سو نو روپے کی خریدی لیکن مشینری کے کھاتے میں ڈیبٹ سائڈ پر مبلغ نو سو نو روپے درج کیے۔
 - مبلغ چھ سو پچاس روپے (650) عابد سے وصول کیے جبکہ عابد کے کھاتے میں دو دفعہ ریکارڈ کیے۔